



سوال

(298) قبر پر پانی پھینکنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قبر پر پانی پھینکنے کے بارے میں کوئی صحیح یا حسن روایت درکار ہے؟ (محسن سلفی، کرہی)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سنن ابن ماجہ والی روایت "ورث القبر بالماء" اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد (بن معاذ) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پانی پھینکا تھا۔ (الجنائز باب ماجاء فی ادخال المیت القبر 1551)

مندل بن علی اور محمد بن عبید اللہ ابی رافع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تسہیل الحاجہ (ص 107 مصنف عبدالرزاق 6481 اور السنن الکبریٰ للبیہقی (3/411) میں قبر پر پانی پھینکنا والی کئی ضعیف و مردود روایات موجود ہیں۔

(شہادت مئی 2003ء)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 1 - کتاب الجنائز - صفحہ 546

محدث فتویٰ